

## 12666 - كفار كے تہواروں كے لئے تيا كردہ كھانے كھانا جائز نہيں

### سوال

كيا مسلمان كے لئے مشركوں يا اہل كتاب كے تہواروں كى مناسبت سے تيار كردہ كھانے كھانا اور ان كے تہواروں كى وجہ سے ان كا عطیہ وصول كرنا جائز ہے؟

### پسندیدہ جواب

الحمد لله.

یہودیوں یا نصاریٰ یا مشرکوں کے اپنے تہواروں پر تیار کردہ کھانے مسلمان شخص کے لئے کھانے جائز نہیں، اور نہ مسلمان کے لئے جائز ہے کہ ان کی عید اور تہوار کی بنا پر ان سے ہدیہ وصول کرے، اس لئے کہ اس میں ان کی عزت و تکریم اور ان کے دینی شعائر کی ترویج میں ان کی حوصلہ افزائی اور ان کے تہواروں میں ان کی خوشی و سرور میں ان کے ساتھ مشارکت ہے۔

اور ایسا کرنے سے ہوسکتا ہے کہ ان کے تہوار اپنانے میں یہی تہوار ہمارے بھی بن جائیں، یا پھر کم از کم ایک دوسرے کو کھانے کی دعوت کا تبادلہ شروع ہو جائے ہمارے اور ان کے تہواروں میں ایک دوسرے کی ہدیہ جات کا تبادلہ ہونے لگے، جو کہ ایک فتنہ اور دین میں نئی چیز اور بدعت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

( جس کس نے بھی ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز نکالی جو اس میں سے نہیں تو وہ مردود ہے )

جیسا کہ ان کے تہواروں کی بنا پر انہیں کسی بھی قسم کا کوئی ہدیہ دینا بھی جائز نہیں ہے ۔